

سُوجی (روا) حلوا

(۱) (روا) سوجی۔ ایک کپ

(۲) شکر۔ ایک کپ

(۳) ملک پاؤڈر۔ ایک کپ

(۴) گھی۔ ایک کپ

(۵) دودھ۔ (گاڑھا پکا ہوا) ایک کپ

(۶) بادام۔ 50 گرام (باریک کٹے)

☆ سوجی، شکر اور گھی ملک پاؤڈر سب کو اچھی طرح کس کر لیں اور ایک پین میں چڑھادیں چولہا بہت دھیمی آنچ پر ہو اور تقریباً 20 سے 25 منٹ چمچا چلاتی رہیں جب سوجی کارنگ ہلکا براؤن ہو جائے تو دودھ شامل کر لیں 5 منٹ بعد چولہے سے اُتار لیں۔ بادام سے سجائیں۔ بہت لذیذ حلوا تیار ہوگا۔

